

جنوری 2019

عزیز افراد خاندان

طوفانی موسم سرما کی تیاری

حالیہ سالوں میں، ہم نے موسم سرما کی بڑھتی ہوئی شدت میں اضافہ کا تجربہ کیا ہے، جس کے نتیجہ میں ہم نے جائزہ لیا کہ طوفانی موسم کے ایام میں ہم کیسے عمل کریں گے۔ ایسے غیر معمولی مواقع آسکتے ہیں۔ جب موسم سرما میں ایسے مواقع آئیں جن کی مثال پہلے نہ ملتی ہو اور ہمیں تمام اسکولوں اور بورڈ کے دفاتر کو بند کرنے کی ضرورت پڑے۔

بند ہونے کی صورت حال پر اس وقت غور کیا جائے گا جب یہ محسوس کیا جائے کہ طلباء اور عملہ کے لئے پورے دن اسکول کی حاضری کی سہولیات محفوظ نہیں ہیں۔ اس میں ایسی صورت بھی ہوسکتی ہے جب بالخصوص اسکول کی کارکردگی کافی حد تک محدود ہو جائے جیسے کہ بہت زیادہ برف باری یا برفانی طوفان جس سے اسکول تک رسائی محدود ہو جائے، نتیجتاً وسیع علاقہ میں یا طویل عرصہ کے لئے برقی رو یا بجلی کی لائنیں معطل ہو جائیں۔

موجودہ طریقہ کار کو برقرار رکھتے ہوئے، جہاں تک ممکن ہو ہم اپنے اسکولوں کو گھلا رکھیں گے۔ بہر حال، یہ ضروری ہے کہ خاندانوں کے پاس ایسے ہنگامی حالات میں اگر اسکول بند ہوئے تو بچوں کی نگہداشت کا متبادل انتظام موجود ہو۔ اگر اسکول بند ہوئے تو پہلے اور بعد کی نگہداشت کے پروگرام بھی بند ہو جائیں گے۔ برائے مہربانی وقت نکال کر اس بات کو یقینی بنائیں کہ اسکول کی ہنگامی بندش کی صورت میں آپ کے پاس متبادل پروگرام بنا ہوا ہو۔

اسکول کی سواری کی معطلی

اگر سڑکوں کی صورت حال بسوں اور ٹیکسی کی خدمات کے لئے غیر محفوظ ہوئے یا طلباء کے گھر جانے کے وقت تک حالت بگڑنے کا امکان ہو تو ہم اسکول کی سواری کے نظام کو معطل رکھیں گے۔ ضروری نہیں کہ بسوں کو کینسل کرنے کا یہ مطلب ہو کہ اسکول ہنگامی طور پر بند ہے۔ جب تک باقاعدہ اطلاع نہ دی جائے اسکول گھلے رہیں گے۔

اگر اسکول کی ٹرانسپورٹیشن صبح کے وقت کینسل کر دی جائے گی تو یہ دوپہر کے لئے بھی کینسل رہے گی۔ طوفانی موسم کی وجہ سے اسکول حاضر نہ ہونے والے طلباء کو غیر حاضر نہیں سمجھا جائے گا، لیکن ہم والدین سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر ان کا بچہ اس دن اسکول نہیں آئے گا تو اس کی اطلاع اسکول کو کر دیں۔ طوفانی موسم کے ایام ([inclement weather days](#))، کے بارے میں مزید معلومات کے لئے برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ [www.yrdsb.ca](http://www.yrdsb.ca) پر جائیں۔

## اسکول کے بند ہونے اور اسکول کی ٹرانسپورٹیشن کی معطلی کے بارے میں اطلاع

اسکول کی ٹرانسپورٹیشن اور اسکول کی بندش کے بارے میں فیصلہ جس قدر جلدی ممکن ہوا کیا جائے گا اور یہ صبح 6:00 بجے سے پہلے ہوگا۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ ٹرانسپورٹیشن معطل ہوگئی ہے یا اسکول بند ہیں، برائے مہربانی مندرجہ ذیل سے رجوع کریں:

- [www.schoolbuscity.com](http://www.schoolbuscity.com) ویب سائٹ: Student Transportation Services
- سٹوڈنٹ ٹرانسپورٹیشن ہاٹ لائن: 1-877-330-3001
- بورڈ ویب سائٹ اور اسکول ویب سائٹ
- @YRDSB Twitter اکاؤنٹ
- ریڈیو اور ٹی وی (TV) چینل کی نشریات

ہم خاندانوں کو اسکول اور بورڈ کے دفاتر بند ہونے کی پیشگی اطلاع کے لئے اپنی بہترین کوشش کریں گے۔ ہم اپنے طلباء، عملہ کے ممبران اور خاندانوں کے تحفظ کو مستقل طور پر ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو برائے مہربانی اپنے اسکول کے پرنسپل سے رجوع کریں۔



Louise Sirisko  
ڈائریکٹر آف ایجوکیشن  
York Region District School Board